

تعلقات عامہ دفتر
جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی
August 13, 2022

پریس ریلیز

جامعہ گرلز سینئر سیکنڈری اسکول میں AKAM کے تین روزہ جشن میں وال آف یونٹی، انسانی زنجیر اور دیگر تقریبات

سہ روزہ آزادی کا امرت مہتسو جشن تقریبات کے ساتھ جامعہ گرلز سینئر سیکنڈری اسکول کے نئے سیشن کا آغاز

جامعہ گرلز سینئر سیکنڈری اسکول کے نئے سیشن کا آغاز سہ روزہ آزادی کا امرت مہتسو جشن تقریبات (دس اگست دوہزار بائیس تا بارہ اگست دوہزار بائیس) انتہائی جوش و خروش اور حب الوطنی کے جذبے سے سرشاری کے ساتھ ہوا۔

دسویں جماعت کی طالبات نے 'کثرت میں وحدت' کے پیغام کے حامل بڑی تعداد میں پوسٹر بنا کر اپنی فن کارانہ مہارت کا ثبوت پیش کیا۔ جامعہ گرلز سینئر سیکنڈری اسکول کے این سی سی کیڈٹ نے اس پروگرام میں پورے جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیا۔ پروگرام کا مرکزی خیال آزادی کا امرت مہتسو تھا اور اس کی اہم بات دسویں جماعت کی طالبات ذریعہ بنایا جانے والی انسانی زنجیر تھی۔ انہوں نے لمبی سی پٹی پر خاکے بھی بنائے ہوئے تھے۔

اس کے بعد بارہویں جماعت کی طالبات کا نعرہ نویسی کے مقابلہ منعقد ہوا جس میں دس دس لڑکیوں کے گروپ نے اسکول کے اسمبلی ایریا میں وال آف یونٹی پر اپنے نعرے لکھے۔ اسکول کے طلبا نے ترنگا ریلی بھی نکالی جس میں وہ اسکول کیمپس میں 'جھنڈا اونچا رہے ہمارا' گاتے ہوئے مارچ کیا۔ یہ دلکش نظارہ قابل دید تھا پوری فضا حب الوطنی کے جذبے سے سرشار تھی۔ گرلز اسکول کے اساتذہ اور اسکول کے پرنسپل پورے پروگرام میں موجود تھے۔

تعلقات عامہ
جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی